

19 فروری 2019

زر قہ نواز صاحبہ کو برامپٹن آرٹس واک آف فیم میں شامل کیا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (19 فروری 2019) – سٹی آف برامپٹن اور فیسٹیول آف لٹریچر ڈائورسٹی (FOLD) بروز جمعہ، 22 مارچ 2019 کو این ایووننگ ود زرقہ نواز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ زرقہ کے کام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اس تقریب میں جئیل رچرڈسن، FOLD کی فنی ڈائریکٹر، کی میزبانی میں کہانیوں اور گہری گفتگو سے بھری شام کی تقریب شامل ہو گی، جس کے بعد زرقہ کو برامپٹن آرٹس واک آف فیم میں شامل کیا جائے گا۔

زر قہ کو CBC کے *لٹل ماسک آن دی پرائی*، مغرب میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی کے بارے میں دنیا کے پہلے سٹیکام، کی تخلیق کار کے طور پر سب سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ اس مشہور شو کا چھ کامیاب سیزنز کے بعد 2012 میں اختتام ہوا اور اب یہ 60 سے زائد ممالک میں نشر ہوتا ہے۔ وہ ایک مسلمان کے طور پر کینیڈا میں پرورش پانے کے حوالے سے اپنی مزاحیہ سوانح عمری، *لا فنگ آل دی وے ٹو دی ماسک*، کی وجہ سے بہترین فروخت کا شرف حاصل کرنے والی مصنفہ بھی ہیں۔ زرقہ اسلام، مزاج، جنس، مذہب، کثیر الثقافت اور تکثیریت کے حوالے سے فعال عوامی مقرر بھی ہیں۔ وہ موجودہ طور پر CBC نیوز ساسکیچوان کی میزبانی کرتی ہیں۔

لورپول، برطانیہ میں پیدا ہونے والی زرقہ کا خاندان 1980 کی دہائی میں برامپٹن میں منتقل ہوا، جہاں انہوں نے فالنگ ڈیل ایلیمنٹری اسکول اور چنگواکوسی سیکنڈری اسکول میں پڑھا۔ اپنی سرگزشت میں، زرقہ نے تارکین وطن کی ایک بیٹی اور "(اپنی) کلاس میں بھوری رنگت کی حامل واحد لڑکی" ہونے کے طور پر اپنی کلاس کے ساتھیوں کے ساتھ گھانے ملنے کی کامیاب کوششیں کیں۔

زر قہ نواز کے ساتھ شام کی ایک پروکار تقریب کا انعقاد روز اسٹوڈیو II میں بوقت شام 7:30 پر منعقد کیا جائے گا۔ تقریب کے مشمولات میں، زرقہ کے ہر دلچیز شو کی ایک اسکریننگ، اس کی سوانح عمری سے ایک اقتباس، سوالات و جوابات اور آرٹس واک آف فیم میں اس کی تقرری اور خیرمقدمی نشست شامل ہو گی۔ ٹکٹ کی قیمت \$20 ہے اور یہ اب www.rosetheatre.ca پر دستیاب ہیں۔

جناب میئر پیٹرک براؤن نے کہا کہ "آرٹس واک آف فیم کے ذریعے ہماری متنوع کمیونٹی میں سے ابھر کر سامنے آنے والے درخشاں ستاروں کی کاوشوں کی پذیرائی کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "کینیڈا میں اپنے فنی خدمات کی خوشیاں منانے کے لیے آنے پر ہم زرقہ نواز صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔"

برامپٹن آرٹس واک آف فیم سٹی آف برامپٹن کے پذیرائی کے کئی پروگراموں میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے برامپٹن کے ابھرتے ہوئے تخلیق کاروں اور فن کاروں کو مربوط کیا جاتا ہے اور ان کی کامیابیوں کی خوشیاں منائی جاتی ہیں تاکہ برامپٹن کے تخلیق کاروں اور فنکاروں کی آنے والی اگلی نسل کو رغبت فراہم کی جائے اور وہ ان کامیاب ستاروں کے نقش قدم پر چل کر کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ برامپٹن میں نمو پانے یا اپنے ابتدائی تخلیقی سال یہاں پر گزارنے والے منتخب کنندگان کو فنون اور تفریح کے شعبوں میں ان کی شاندار کامیابیوں کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے تاکہ برامپٹن کی کمیونٹی ان پر فخر محسوس کرے اور نئے آنے والے فنکار اور تخلیق کار ان کی شاندار کامیابیوں سے رغبت حاصل کر سکیں۔

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں **ٹوئٹر** اور **فیس بک** پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca | 905-874-3426